

قرآن کو بوسہ دینا کیسا ہے

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ قرآن کو چومنا و بوسہ دینا کیسا ہے ؟ کیونکہ ایک دوسرے فرقہ سے تعلق رکھنے والے عالم نے کہا ہے کہ قرآن کو نہیں چومنا چاہیے۔

سائل: محمد باقر فرام انڈیا

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

قرآن مجید کو بوسہ دینا جائز و مستحسن ہے اور ایسا کرنا صحابہ کرام کے فعل سے بھی ثابت ہے۔

رُوي عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْمُصْحَفَ كُلَّ عِدَاةٍ وَيَقْبَلُهُ وَيَقُولُ عَهْدُ رَبِّي وَمَنْشُورُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْبَلُ الْمُصْحَفَ وَيَمْسَحُهُ عَلَى

وَجْهِهِ" حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کو قرآن پاک کو پکڑتے اور بوسہ دیتے تھے اور کہتے یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصحف کو بوسہ دیتے اور چہرے سے مس کرتے۔

(الدرالمختار، کتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، ج ۹، ص ۶۳۴)

سنی علماء کرام کے علاوہ کسی سے فتویٰ حاصل نہ کیا جائے اور نہ ان کی کسی بات پر کان دھرے جائیں اس سے ان شاء اللہ بندہ ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رہے گا۔

واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

## RULING ON KISSING THE HOLY QURAN

### QUESTION:

What do the scholars and muftis of the noble Shari'ah say regarding this matter: what is the ruling on kissing the Qur'ān? One scholar who is affiliated with a different sect claims that the Qur'ān should not be kissed.

Questioner: Muhammad Bāqir from India

### ANSWER:

بسم الله الرحمن الرحيم  
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

Kissing the Qur'ān is permissible and recommended and doing so is proven from the actions of the noble sahaba.

رُوي عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْمُصْحَفَ كُلَّ غَدَاةٍ وَيَقْبَلُهُ وَيَقُولُ عَهْدُ رَبِّي وَمَنْشُورُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْبَلُ الْمُصْحَفَ وَيَمْسَحُهُ عَلَى وَجْهِهِ

Hazrat Umar رضى الله تعالى عنه would take the Qur'ān every morning and kiss it and say this is the covenant of my Lord and this is His Book. Hazrat Uthmān رضى الله تعالى عنه would also kiss the Mushaf and place it against his face.

(الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، ج ٩، ص ٦٣٤)

Religious verdicts should not be attained from anyone other than the Sunni scholars. One should not turn his ears towards anything they say and by doing so, you will be safe from any kind of misguidance . ان شاء الله

والله اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم  
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

**Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri**

Translated by Dawud Hanif